

والدین اور خاندان کے لیے وسائل

کیا آپ کے کوئی سوالات ہیں؟

نیویارک اسٹیٹ کے محکمہ تعلیم (New York State Education Department, NYSED) کے دفتر برائے اسٹیٹ تشخیص (Office of State Assessment) سے ذیل پر رابطہ کریں:

518-474-5902

یا ای میل کریں:

EMSCASSESSINFO@nysed.gov

مزید معلومات کیلئے:

ذیل پر NYSED کے ویب پیجز ملاحظہ کریں:

<http://www.nysed.gov/state-assessment/new-york-state-alternate-assessment>

اور

دفتر برائے خصوصی تعلیم (Office of Special Education) کا ویب پیج یہاں ملاحظہ کریں:

<http://www.p12.nysed.gov/specialed/>

New York State Education Department
89 Washington Avenue
Albany, New York 12234

(518) 474-5902

فیکس (518) 474-1989




والدین کے لیے
فوری رہنمائی برائے
نیویارک اسٹیٹ
متبادل تشخیص
(NYSAA)



New York State Education Department

والدین کے لیے رپورٹ: آپ کے بچے کے NYSAA کے نتائج

آپ کے بچے کا اسکول ہر اس شعبے کے انفرادی اسکور کی رپورٹ گھر بھیجے گا جس کے حوالے سے آپ کے بچے کی تشخیص کی گئی تھی۔ اپنے بچے کی پیش رفت کو سمجھنے میں مدد کے لیے آپ ان نتائج کو نقطہ آغاز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔



نیویارک اسٹیٹ کی متبادل تشخیص (New York State Alternate Assessment, NYSAA) کیا ہے؟

NYSAA نیویارک اسٹیٹ ٹیسٹنگ پروگرام کا ایک حصہ ہے جو انگریزی زبان کے آرٹس (English Language Arts, ELA)، ریاضی، اور سائنس کے شعبوں میں ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل طالب علموں کی متبادل کارکردگی کی تکمیل کے معیارات کے لحاظ سے طلباء کی کارکردگی کی جانچ کرتا ہے۔ ان معیارات کی پیچیدگی سیکھنے کے معیارات سے کم ہوتی ہے۔

ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل طالب علموں سے ہماری کیا مراد ہے؟

"ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل طالب علموں" کی تعریف ایسے طالب علموں کے طور پر کی جا سکتی ہے جن میں محدود ذہنی قابلیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ طرز عمل اور / یا جسمانی لحاظ سے محدود صلاحیت ہوتی ہے، اور جن کو معاشرے میں مفید اور بامقصد شرکت اور اپنے اغراض کی تکمیل کے لیے اپنی پوری صلاحیت کے اعلیٰ مقام کو استعمال کرنے کے لیے انتہائی خصوصی تعلیمی، سماجی، نفسیاتی اور طبی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔

NYSAA کس کو کروانی چاہیے؟

صرف ذہنی اعتبار سے شدید معذوریوں کے حامل طلباء ہی NYSAA کے اہل ہیں۔ کمیٹی برائے خصوصی تعلیم (Committee on Special Education, CSE) مندرجہ ذیل معیار کی بنیاد پر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا ذہنی اعتبار سے شدید معذوری کا کوئی حامل طالب علم NYSAA کا اہل ہے یا نہیں:

- طالب علم میں شدید عقلی معذوری، مواصلات / بولنے کی صلاحیت میں نمایاں کمی، اور مطابقت پیدا کرنے کے رویے میں نمایاں کمی موجود ہے؛ اور
- طالب علم کے لیے ایک انتہائی خصوصی تعلیمی پروگرام کی ضرورت ہے جو قدرتی ماحول (گھر، اسکول، کمیونٹی، اور / یا کام کی جگہ) میں مہارت کے حصول، استعمال، اور منتقلی کی سہولت فراہم کر سکے؛ اور
- طالب علم کو تعلیمی تعاون کے نظاموں، جیسے معاون ٹیکنالوجی، ذاتی نگہداشت کی خدمات، صحت / طبی خدمات، یا طرز عمل کی مداخلت، کی ضرورت ہے۔



NYSAA طلباء کی ذیل میں کارکردگی کی پیمائش کرتا ہے:

انگریزی زبان کے آرٹس (ELA)، ریاضی اور سائنس

ڈائنامک لرننگ میپس (Dynamic Learning Maps, DLM) کے متبادل تشخیصی نظام کے ذریعے ELA، ریاضی اور سائنس کی تشخیص کی جائے گی۔ DLM کمیونٹی کے ذریعے فراہم کردہ، مطابقت پذیر تشخیص ہے جو ضروری عناصر (Essential Elements) کے حوالے سے طلباء کے علم کی پیمائش کرتی ہے۔ ضروری عناصر متبادل کارکردگی کی تکمیل کے معیارات ہیں جو سیکھنے کے معیارات سے گہرائی اور وسعت میں کم ہوتے ہیں۔ ELA اور ریاضی کے لیے، طلباء کی گریڈ 3-8 میں سالانہ بنیاد پر اور ایک بار سیکنڈری سطح پر ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے سے قبل تشخیص کی جاتی ہے۔ سائنس کے لیے، طلباء کی گریڈ 4 اور 8 میں اور ایک بار سیکنڈری سطح پر ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے سے قبل تشخیص کی جاتی ہے۔

اسکورز

NYSAA کے اسکورز کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟

NYSAA اسکورز آپ اور آپ کے بچے کے استاد کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ گریڈ کی سطح پر متبادل کارکردگی کی تکمیل کے معیارات پر کس طرح پیش رفت کر رہا ہے۔ یہ اسکورز ذیل کے حوالے سے مدد کر سکتے ہیں:

- اپنے بچے کی طاقت اور ضروریات کی واضح طور پر نشاندہی کرنا؛ اور
- اپنے بچے کے انفرادی تعلیم پروگرام (Individualized Education Program, IEP) کے بارے میں معنی خیز مباحثے کے لئے معلومات کی فراہمی؛ اور
- تعلیمی ترجیحات کا تعین جو آپ کے بچے کے عملی اور تعلیمی اہداف اور قلیل مدتی مقاصد کے حوالے سے مدد کر سکیں؛ اور
- متعدد ترتیبات میں اپنے بچے کے مواصلات کے سب سے مؤثر طریقہ کی شناخت کرنا۔

